سیاہ حاشیے

سعادت حسن منٹو

سیاہ حاشیئے

(افسانچے)

سعادت حسن منٹوؔ

ساعت شیریں

اطلاع موصول ہوئی کہ مہاتما گاندھی کی موت پر اظہار مسرت کے لیے امرتسر' گوالیار اور بمبئی میں کئی جگہ لوگوں میں شیرینی بانٹی گئی۔ (الف' پ)

◆◆◆

مزدوری

لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا۔ اس گرمی میں اضافہ ہو گیا جب چاروں طرف آگ بھڑکنے لگی۔

ایک آدم ہار مونیم کی پیٹی اٹھائے خوش خوش گاتا جا رہا تھا۔

''جب تم ہی گئے پردیس لگا کر ٹھیس

او پیتم پیارا دنیا میں کون ہمارا''

ایک چھوٹی عمر کا لڑکا جھولی میں پاپڑوں کا انبار ڈالے بھاگا جا رہا تھا۔ ٹھوکر لگی تو پاپڑوں کی ایک گڈی اس کی جھولی میں سے گر پڑی۔ لڑکا اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو ایک آدمی نے جس نے سر پر سلائی کی مشین اٹھائی ہوئی تھی اس سے کہا۔ ''رہنے دے بیٹا' رہنے دے۔ اپنے آپ بھن جائیں گے۔''

بازار میں دھب سے ایک بھری ہوئی بوری گری۔ ایک شخص نے جلدی سے بڑھ کر اپنے چھرے سے اس کا پیٹ چاک کیا۔ آنتوں کی بجائے شکر' سفید سفید دانوں والی شکر ابل کر باہر نکل آئی۔ لوگ جمع ہو گئے اور اپنی جھولیاں بھرنے لگے۔ ایک آدمی کرتے کے بغیر تھا اس نے جلدی سے اپنا تہبند کھولا اور مٹھیاں بھر بھر اس میں ڈالنے لگا۔

''ہٹ جاؤ' ہٹ جاؤ۔'' ایک تانگہ تازہ تازہ روغن شدہ الماریوں سے لدا ہوا گزر گیا۔

اونچے مکان کی کھڑکی میں سے ململ کا تھان پھڑ پھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ شعلے کی زبان نے ہولے سے اسے چاٹا۔ سڑک تک پہنچا تو راکھ کا ڈھیر تھا۔

''پوں پوں۔۔۔۔۔۔۔ پوں پوں'' موٹر کے ہارن کی آواز کے ساتھ دو عورتوں کی چیخیں بھی تھیں۔

لوہے کا ایک سفید دس پندرہ آدمیوں نے کھینچ کر باہر نکالا اور لاٹھیوں کی مدد سے اس کو کھولنا شروع کیا۔

''گاؤ اینڈ گیٹ'' دودھ کے کئی ٹین دونوں ہاتھوں پر اٹھائے اپنی ٹھوڑی سے ان کو سہارا دیئے ایک آدمی دکان سے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ بازار میں چلنے لگا۔

بلند آواز آئی۔ ''آؤ آؤ لیمونیڈ کی بوتلیں پیو۔ گرمی کا موسم ہے۔''

گلے میں موٹر کا ٹائر ڈالے ہوئے آدمی نے دو بوتلیں لیں اور شکریہ ادا کئے بغیر چل دیا۔

ایک آواز آئی۔ ''کوئی آگ بجھانے والوں کو اطلاع دے دے۔ سارا مال جل جائے گا۔'' کسی نے اس مفید مشورے کی طرف توجہ نہ دی۔

لوٹ کھسوٹ کا بازار اسی طرح گرم رہا۔ اور اس گرمی میں چاروں طرف بھڑکنے والی آگ بدستور اضافہ کرتی رہی۔ بہت دیر کے بعد تڑتڑ کی آواز آئی۔ گولیاں چلنے لگیں۔

پولیس کو بازار خالی نظر آیا۔ لیکن دور دھوئیں میں ملفوف موٹر کے پاس ایک آدمی کا سایہ دکھائی دیا۔ پولیس کے سپاہی سیٹیاں بجاتے اس کی طرف لپکے۔ سایہ تیزی سے دھوئیں کے اندر گھس گیا۔ پولیس کے سپاہی بھی اس کے تعاقب میں گئے۔

دھوئیں کا علاقہ ختم ہوا تو پولیس کے سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک کشمیری مزدور پیٹھ پر وزنی بوری اٹھائے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ سیٹیوں کے گلے خشک ہو گئے مگر وہ کشمیری مزدور نہ رکا۔ اس کی پیٹھ پر وزن تھا' معمولی وزن نہیں' ایک بھری ہوئی بوری تھی۔ لیکن وہ یوں دوڑ رہا تھا جیسے پیٹھ پر کچھ ہے ہی نہیں۔

سپاہی ہانپنے لگے۔ ایک نے تنگ آ کر پستول نکالا اور داغ دیا۔ گولی کشمیری مزدور کی پنڈلی میں لگی۔ بوری اس کی پیٹھ پر سے گر پڑی۔ گھبرا کر اس نے اپنے پیچھے آہستہ آہستہ بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو دیکھا۔ پنڈلی سے بہتے ہوئے خون کی طرف بھی اس نے غور کیا۔ لیکن ایک ہی جھٹکے سے بوری اٹھائی اور پیٹھ پر ڈال کر پھر بھاگنے لگا۔

سپاہیوں نے سوچا۔ ''جانے دو' جہنم میں جائے۔''

ایک دم لنگڑاتا ہوا کشمیری مزدور لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ بوری اس کے اوپر آ رہی۔

سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور بوری سمیت لے گئے۔ راستے میں کشمیری مزدور نے بار بار کہا۔ ''حضرت! آپ مجھے کیوں پکڑتی ہے' میں تو غریب آدمی ہوتی۔ چاول کی ایک بوری لیتی' گھر میں کھاتی' آپ ناحق مجھے گولی مارتی۔''

لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔

تھانے میں بھی کشمیری مزدور نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا۔

''حضرت دوسرا لوگ بڑا بڑا مال اٹھاتی' میں تو فقط ایک چاول کی بوری لیتی' حضرت میں بہت غریب ہوتی' ہر روز بھات

کھاتی۔“

جب وہ تھک ہار گیا تو اس نے اپنی میلی ٹوپی سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور چاولوں کی بوری کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر تھانیدار کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ ”اچھا حضرت' تم بوری اپنے پاس رکھ' میں اپنی مزدوری مانگتی۔۔۔۔۔۔۔ چار آنے!“

◆◆◆

تعاون

چالیس پچاس لٹھ بند آدمیوں کا ایک گروہ لوٹ مار کے لیے ایک مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔

دفعتاً اس بھیڑ کو چیر کر ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر کا آدمی باہر نکلا۔ پلٹ کر اس نے بلوائیوں کو لیڈرانہ انداز میں مخاطب کیا۔ بھائیو! اس مکان میں بے اندازہ دولت ہے بے شمار قیمتی سامان ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس پر قابض ہو جائیں اور مال غنیمت آپس میں بانٹ لیں۔''

ہوا میں کئی لاٹھیاں لہرائیں۔ کئی مکے بھنچے اور بلند بانگ نعروں کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔

چالیس پچاس لٹھ بند آدمیوں کا گروہ دبلے پتلے ادھیڑ عمر کے آدمی کی قیادت میں اس مکان کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ جس میں بے انداز دولت اور بے شمار قیمتی سامان تھا۔

مکان کے صدر دروازے کے پاس رک کر دبلا پتلا آدمی پھر بلوائیوں سے مخاطب ہوا۔ ''بھائیو! اس مکان میں جتنا مال بھی ہے سب تمہارا ہے، لیکن دیکھو چھینا جھپٹی نہیں کرنا۔ آپس میں نہیں لڑنا۔ آؤ۔''

ایک چلایا۔ ''دروازے میں تالا ہے۔''

دوسرے نے با آواز بلند کہا۔ ''توڑ دو۔''

''توڑ دو۔ توڑ توڑ دو۔''

ہوا میں کئی لاٹھیاں لہرائیں، کئی مکے بھنچے اور بلند بانگ نعروں کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔

دبلے پتلے آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ توڑنے والوں کو روکا اور مسکرا کر کہا۔ ''بھائیو، ٹھہرو، میں اسے چابی سے کھولتا ہوں۔''

یہ کہہ کر اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور ایک چابی منتخب کر کے تالے میں ڈالی اور اسے کھول دیا۔ شیشم کا بھاری بھرکم دروازہ ایک چیخ کے ساتھ وا ہوا، تو ہجوم دیوانہ وار اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ دبلے پتلے آدمی نے ماتھے کا پسینہ اپنی

آستین سے پونچھتے ہوئے کہا۔ ''بھائیو آرام آرام سے جو کچھ اس مکان میں ہے سب تمہارا ہے پھر اس افراتفری کی کیا ضرورت ہے؟''

فوراً ہی ہجوم میں ضبط پیدا ہو گیا۔ ایک ایک کر کے بلوائی مکان کے اندر داخل ہونے لگے۔ لیکن جونہی چیزوں کی لوٹ شروع ہوئی پھر دھاندلی مچ گئی۔ بڑی بے رحمی سے بلوائی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔

دبلے پتلے آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑی دکھ بھری آواز میں لٹیروں سے کہا۔ ''بھائیو آہستہ آہستہ۔۔۔۔۔۔۔ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نوچ کھسوٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تعاون سے کام لو۔ اگر کسی کے ہاتھ زیادہ قیمتی چیز آ گئی ہے تو حاسد مت بنو۔ اتنا بڑا مکان ہے اپنے لیے کوئی اور چیز ڈھونڈو۔ مگر ایسا کرتے ہوئے وحشی نہ بنو۔ مار دھاڑ کرو گے تو چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس میں نقصان تمہارا ہی ہے۔''

لٹیروں میں ایک بار پھر نظم پیدا ہو گیا۔ بھرا ہوا مکان آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔

دبلا پتلا آدمی وقتاً فوقتاً ہدایات دیتا رہا۔ ''دیکھو بھیا یہ ریڈیو ہے۔ آرام سے اٹھاؤ ایسا نہ ہو ٹوٹ جائے۔ یہ اس کے تار بھی ساتھ لیتے جاؤ۔''

''تہہ کر لو بھائی اسے تہہ کر لو۔ اخروٹ کی لکڑی کی تپائی ہے ہاتھی دانت کی پچی کاری ہے بڑی نازک ہے۔۔۔۔۔۔۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔''

''نہیں نہیں یہاں مت پیو بہک جاؤ گے۔ اسے گھر لے جاؤ۔''

''ٹھہرو ٹھہرو مجھے مین سوئچ بند کر لینے دو۔ ایسا نہ ہو کرنٹ کا دھکا نہ لگ جائے۔''

اتنے میں ایک کونے سے شور بلند ہوا۔ چار بلوائی ریشمی کپڑے کے ایک تھان پر چھینا جھپٹی کر رہے تھے۔ دبلا پتلا آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ملامت بھرے لہجے میں ان سے کہا۔ ''تم کتنے بے سمجھ ہو۔ چندی چندی ہو جائے گی ایسے قیمتی کپڑے کی۔ گھر میں سب چیزیں موجود ہیں۔ گز بھی ہو گا۔ تلاش کرو اور ماپ کر کپڑا آپس میں تقسیم کر لو۔''

دفعتاً کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ ''عف عف عف''

اور چشم زدن میں ایک بہت بڑا گدی کتا ایک جست کے ساتھ اندر لپکا اور لپکتے ہی اس نے دو تین لٹیروں کو جھنجھوڑ دیا۔ دبلا پتلا آدمی چلایا۔ ''ٹائیگر ٹائیگر''

ٹائیگر جس کے خوفناک منہ میں ایک لٹیرے کا نچا ہوا گریبان تھا' دم ہلاتا ہوا دبلے پتلے آدمی کی طرف نگاہیں نیچی کئے قدم اٹھانے لگا۔

کتے کے آتے ہی سب لٹیرے بھاگ گئے۔صرف ایک باقی رہ گیا تھا جس کے گریبان کا ٹکڑا ٹائیگر کے منہ میں تھا۔اس نے دبلے پتلے آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا۔''کون ہو تم؟''

دبلا پتلا آدمی مسکرایا۔''اس گھر کا مالک۔۔۔۔۔۔۔دیکھو دیکھو تمہارے ہاتھ سے کانچ کا مرتبان گر رہا ہے۔''

◆◆◆

تقسیم

ایک آدمی نے اپنے لیے لکڑی کا ایک بڑا صندوق منتخب کیا۔ جب اسے اٹھانے لگا تو وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔

ایک شخص نے جسے شاید اپنے مطلب کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی تھی' صندوق اٹھانے کی کوشش کرنے والے سے کہا۔

''میں تمہاری مدد کروں؟''

صندوق اٹھانے کی کوشش کرنے والا امداد لینے پر راضی ہو گیا۔ اس شخص نے جسے اپنے مطلب کی کوئی چیز مل نہیں رہی تھی' اپنے مضبوط ہاتھوں سے صندوق کو جنبش دی اور اٹھا کر اپنی پیٹھ پر دھر لیا۔

دوسرے نے سہارا دیا۔

دونوں باہر نکلے۔

صندوق بہت بوجھل تھا۔ اس کے وزن کے نیچے اٹھانے والے کی پیٹھ چیخ رہی تھی۔ ٹانگیں دوہری ہوتی جا رہی تھیں مگر انعام کی توقع نے اس جسمانی مشقت کا احساس نیم مردہ کر دیا تھا۔

صندوق اٹھانے والے کے مقابلے میں صندوق کو منتخب کرنے والا بہت ہی کمزور تھا۔ سارا راستہ وہ صرف ایک ہاتھ سے سہارا دے کر اپنا حق قائم رکھتا رہا۔

جب دونوں محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو صندوق کو ایک طرف رکھ کر ساری مشقت برداشت کرنے والے نے کہا۔ ''بولو' اس صندوق کے مال میں سے مجھے کتنا ملے گا؟''

صندوق پر پہلی نظر ڈالنے والے نے جواب دیا۔ ''ایک چوتھائی''

''بہت کم ہے۔''

''کم بالکل نہیں' زیادہ ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے میں نے ہی اس پر ہاتھ ڈالا تھا۔''

''ٹھیک ہے لیکن یہاں تک اس کمر توڑ بوجھ کو اٹھا کر لایا کون ہے؟''

''آدھے آدھے پر راضی ہو۔''

''ٹھیک ہے۔کھولو صندوق''

صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا۔

ہاتھ میں تلوار تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دونوں حصہ داروں کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا۔

◆◆◆

جائز استعمال

دس راؤنڈ چلانے اور تین آدمیوں کو زخمی کرنے کے بعد پٹھان بھی آخر سرخ رو ہو ہی گیا۔

ایک افراتفری مچی تھی۔ لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے چھینا جھپٹی ہو رہی تھی۔ مار دھاڑ بھی جاری تھی۔ پٹھان اپنی بندوق لئے گھسا اور تقریباً ایک گھنٹہ کشتی لڑنے کے بعد تھرموس بوتل پر ہاتھ صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

پولیس پہنچی تو سب بھاگے۔ پٹھان بھی۔

ایک گولی اس کے داہنے کان کو چاٹتی ہوئی نکل گئی۔ پٹھان نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور سرخ رنگ کی تھرموس بوتل کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے رکھا۔

اپنے دوستوں کے پاس پہنچ کر اس نے سب کو بڑے فخریہ انداز میں تھرموس کی بوتل دکھائی۔ ایک نے مسکرا کر کہا۔ ''خان صاحب! آپ یہ کیا اٹھا لائے ہیں؟''

خان صاحب نے پسندیدہ نظروں سے بوتل کو چمکتے ہوئے ڈھکنے کو دیکھا اور پوچھا۔ ''کیوں؟''

''یہ تو ٹھنڈی چیزیں ٹھنڈی اور گرم چیزیں گرم رکھنے والی بوتل ہے۔''

خان صاحب نے بوتل اپنی جیب میں رکھ لی۔ ''خوام اس میں نسواڈا لے گا۔ گرمیوں میں گرم رہے گی' سردیوں میں سرد۔''

◆◆◆

بے خبری کا فائدہ

لبلبی دبی۔ پستول سے جھنجھلا کر گولی باہر نکلی۔

کھڑکی میں سے باہر جھانکنے والا آدمی اسی جگہ دوہرا ہو گیا۔

لبلبی تھوڑی دیر کے بعد پھر دبی۔ دوسری گولی بھنبھناتی ہوئی باہر نکلی۔

سڑک پر ماشکی کی مشک پھٹی۔ اوندھے منہ گرا اور اس کا لہو مشک کے پانی میں حل ہو کر بہنے لگا۔

لبلبی تیسری بار دبی۔ نشانہ چوک گیا۔ گولی ایک گیلی دیوار میں جذب ہو گئی۔

چوتھی گولی ایک بوڑھی عورت کی پیٹھ میں لگی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔

پانچویں اور چھٹی گولی بیکار گئی۔ کوئی ہلاک ہوا نہ زخمی۔

گولیاں چلانے والا بھنا گیا۔ دفعتاً سڑک پر ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا دکھائی دیا۔ گولیاں چلانے والے نے پستول کا منہ اس طرف موڑا۔

اس کے ساتھی نے کہا۔ ''یہ کیا کرتے ہو؟''

گولیاں چلانے والے پوچھا۔ ''کیوں؟''

''گولیاں تو ختم ہو چکی ہیں۔''

''تم خاموش رہو۔۔۔۔۔۔۔ اتنے سے بچے کو کیا معلوم؟''

◆◆◆

مناسب کارروائی

جب حملہ ہوا تو محلے میں سے اقلیت کے کچھ آدمی تو قتل ہو گئے جو باقی بچے تھے جانیں بچا کر بھاگ نکلے۔ ایک آدمی اور اس کی بیوی البتہ اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپ گئے۔

دو دن اور دو راتیں پناہ یافتہ میاں بیوی نے قاتلوں کی متوقع آمد میں گزار دیں۔ مگر کوئی نہ آیا۔

دو دن اور گزر گئے۔ موت کا ڈر کم ہونے لگا۔ بھوک اور پیاس نے زیادہ ستانا شروع کیا۔

چار دن اور بیت گئے میاں بیوی کو زندگی اور موت سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ دونوں جائے پناہ سے باہر نکل آئے۔

خاوند نے بڑی نحیف آواز میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا۔ ''ہم دونوں اپنا آپ تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ ہمیں مار ڈالو۔''

جن کو متوجہ کیا گیا تھا' وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ''ہمارے دھرم میں تو جی ہتیا پاپ ہے۔''

وہ سب جینی تھے لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور میاں بیوی کو مناسب کارروائی کے لیے دوسرے محلے کے آدمیوں کے سپرد کر دیا۔

◆◆◆

کرامات

لوٹا ہوا مال برآمد کرنے کے لیے پولیس نے چھاپے مارنے شروع کیے۔

لوگ ڈر کے مارے لوٹا ہوا مال رات کے اندھیرے میں باہر پھینکنے لگے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا مال بھی موقع پا کر اپنے سے علیحدہ کر دیا تا کہ قانونی گرفت سے بچے رہیں۔

ایک آدمی کو بہت دقت پیش آئی۔ اس کے پاس شکر کی دو بوریاں تھیں جو اس نے پنساری کی دکان سے لوٹی تھیں۔ ایک تو وہ جوں کی توں رات کے اندھیرے میں پاس والے کنوئیں میں پھینک آیا لیکن جب دوسری اٹھا کر اس میں ڈالنے لگا تو خود بھی ساتھ چلا گیا۔

شور سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے کنوئیں میں رسیاں ڈالی گئیں۔ دو جوان نیچے اترے اور اس آدمی کو باہر نکال لیا۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد وہ مر گیا۔

دوسرے دن جب لوگوں نے استعمال کے لیے اس کنوئیں میں سے پانی نکالا تو وہ میٹھا تھا۔

اسی رات اس آدمی کی قبر پر دیے جل رہے تھے۔

◆◆◆

اصلاح

''کون ہو تم ؟''

''تم کون ہو؟''

''ہر ہر مہادیو۔۔۔۔۔۔۔۔ ہر ہر مہادیو''

''ہر ہر مہادیو''

''ثبوت کیا ہے؟''

''ثبوت۔۔۔۔۔۔۔ میرا نام دھرم چند ہے۔''

''یہ کوئی ثبوت نہیں۔''

''چار ویدوں میں سے کوئی بھی بات مجھ سے پوچھ لو۔''

''ہم ویدوں کو نہیں جانتے۔ ثبوت دو۔''

''کیا؟''

''پاجامہ ڈھیلا کرو۔''

پاجامہ ڈھیلا ہوا تو ایک شور مچ گیا۔ ''مار ڈالو مار ڈالو۔''

''ٹھہرو، ٹھہرو۔ میں تمہارا بھائی ہوں۔ بھگوان کی قسم تمہارا بھائی ہوں۔''

''تو یہ کیا سلسلہ ہے؟''

''جس علاقے سے آ رہا ہوں وہ ہمارے دشمنوں کا تھا۔''

اس لیے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ ایک یہی چیز غلط ہو گئی ہے۔ باقی بالکل ٹھیک ہوں۔''

''اڑا دو غلطی کو۔''

غلطی اڑا دی گئی۔ دھرم چند بھی ساتھ ہی اڑ گیا۔

◆◆◆

جیلی

صبح چھ بجے پٹرول پمپ کے پاس ہاتھ گاڑی میں برف بیچنے والے کے چھرا گھونپا گیا۔ سات بجے تک اس کی لاش لک بچھی سڑک پر پڑی رہی اور اس پر برف پانی بن بن گرتی رہی۔

سوا سات بجے پولیس لاش اٹھا کر لے گئی۔ برف اور خون وہیں سڑک پر پڑے رہے۔

ایک ٹانگہ پاس سے گزرا۔ بچے نے سڑک پر جیتے جیتے خون کے جمے ہوئے چمکیلے لوتھڑے کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اپنی ماں کا بازو کھینچ کر بچے نے انگلی سے اس طرف اشارہ کیا۔ ''دیکھو ممی جیلی''

◆◆◆

دعوت عمل

آگ لگی تو سارا محلہ جل گیا۔

صرف ایک دکان بچ گئی جس کی پیشانی پر یہ بورڈ آویزاں تھا۔

''یہاں عمارت سازی کا جملہ سامان ملتا ہے۔''

◆◆◆

پٹھانستان

''خو ایک دم جلدی بولو تم کون اے؟''

''میں۔۔۔۔۔۔۔میں۔۔۔۔۔۔''

''خو شیطان کا بچہ جلدی بولو۔۔۔۔۔۔۔اندوا ے یا مسلمین؟''

''مسلمین''

''خو تمہارا رسول کون ہے؟''

''محمد خان''

''ٹیک اے جاؤ''

◆◆◆

خبردار

بلوائی مالک مکان کو بڑی مشکلوں سے گھسیٹ کر باہر لے آئے۔ کپڑے جھاڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بلوائیوں سے کہنے لگا۔

''تم مجھے مار ڈالو لیکن خبردار جو میرے روپے پیسے کو ہاتھ لگایا۔''

◆◆◆

ہمیشہ کی چھٹی

”پکڑلو پکڑلو۔۔۔۔۔۔۔۔دیکھو جانے نہ پائے۔“

شکار تھوڑی سی دوڑ دھوپ کے بعد پکڑ لیا گیا۔ جب نیزے اس کے آر پار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے لرزاں آواز میں گڑگڑا کر کہا۔ ”مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو۔۔۔۔۔۔۔۔میں تعطیلوں میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔“

◆◆◆

حلال اور جھٹکا

''میں نے اس کی شہ رگ پر چھری رکھی۔ ہولے ہولے پھیری اور اس کو حلال کر دیا۔''

''یہ تم نے کیا کیا؟''

''کیوں؟''

''اس کو حلال کیوں کیا؟''

''مزا آتا ہے اس طرح''

''مزا آتا ہے کے بچے، تجھے جھٹکا کرنا چاہیے تھا اس طرح''

اور حلال کرنے والے کی گردن کا جھٹکا ہو گیا۔

◆◆◆

گھاٹے کا سودا

دو دوستوں نے مل کر دس بیس لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چنی اور بیالیس روپے دے کر اسے خرید لیا۔ رات گزار کر ایک دوست نے اس لڑکی سے پوچھا۔ ''تمہارا نام کیا ہے؟''

لڑکی نے اپنا نام بتایا تو وہ بھنا گیا۔ ''ہم سے تو کہا گیا تھا کہ تم دوسرے مذہب کی ہو۔''

لڑکی نے جواب دیا۔ ''اس نے جھوٹ بولا تھا۔''

یہ سن کر وہ دوڑا دوڑا اپنے دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا۔

''اس حرامزادے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہمارے ہی مذہب کی لڑکی تھما دی۔۔۔۔۔۔۔ چلو واپس کر آئیں۔''

◆◆◆

حیوانیت

بڑی مشکل سے میاں بیوی گھر کا تھوڑا اثاثہ بچانے میں کامیاب ہوئے۔ جوان لڑکی تھی۔ اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ چھوٹی سی بچی تھی۔ اس کو ماں نے اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے رکھا۔ ایک بھوری بھینس تھی اس کو بلوائی ہانک کر لے گئے۔ گائے بچ گئی مگر بچھڑا نہ ملا۔

میاں بیوی ان کی چھوٹی لڑکی اور گائے ایک جگہ چھپے ہوئے تھے۔ سخت اندھیری رات تھی۔ بچی نے ڈر کے رونا شروع کیا تو خاموش فضا میں جیسے کوئی ڈھول پیٹنے لگا۔ ماں نے خوفزدہ ہو کر بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ دشمن سن نہ لے۔ آواز دب گئی۔ باپ نے احتیاطاً اوپر گاڑھے کی موٹی چادر ڈال دی۔

تھوڑی دیر کے بعد دور سے کسی بچھڑے کی آواز آئی۔ گائے کے کان کھڑے ہوئے۔ اٹھی اور ادھر ادھر دیوانہ وار دوڑتی ڈکرانے لگی۔ اس کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی گئی مگر بے سود۔

شور سن کر دشمن آ پہنچا۔ دور سے مشعلوں کی روشنی دکھائی دی۔ بیوی نے اپنے میاں سے بڑے غصے کے ساتھ کہا۔

''تم کیوں اس حیوان کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔''

◆◆◆

کھاد

اس کی خودکشی پر اس کے ایک دوست نے کہا۔

بہت ہی بیوقوف تھا جی۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ دیکھو اگر تمہارے کیس کاٹ دیئے ہیں اور تمہاری داڑھی مونڈ دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا دھرم ختم ہو گیا ہے۔ روز دہی استعمال کرو۔ واہگورو جی نے چاہا تو ایک ہی برس میں تم پھر ویسے کے ویسے ہو جاؤ گے۔"

◆◆◆

کسر نفسی

چلتی گاڑی روک لی گئی جو دوسرے مذہب کے تھے ان کو نکال نکال کر تلواروں اور گولیوں سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے فارغ ہو کر گاڑی کے باقی مسافروں کی حلوے، دودھ اور پھلوں سے تواضع کی گئی۔ گاڑی چلنے سے پہلے تواضع کی گئی۔ گاڑی چلنے سے پہلے تواضع کرنے والوں کے منتظم نے مسافروں کو مخاطب کر کے کہا۔ ''بھائیو اور بہنو! ہمیں گاڑی کی آمد کی اطلاع بہت دیر میں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس طرح چاہتے تھے اس طرح آپ کی خدمت نہ کر سکے۔''

◆◆◆

استقلال

''میں سکھ بننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔۔۔۔۔۔۔
میرا استرا واپس کر دو مجھے''

◆◆◆

نگرانی میں

الف اپنے دوست ''ب'' کو اپنا ہم مذہب ظاہر کر کے اسے مقام پر پہنچانے کے لیے ملٹری کے ایک دستے کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستے میں ''ب'' نے جس کا مذہب مصلحتاً بدل دیا گیا تھا' ملٹری والوں نے پوچھا۔ ''کیوں جناب' آس پاس کوئی واردات تو نہیں ہوئی؟''

جواب ملا۔ ''کوئی خاص نہیں۔۔۔۔۔۔۔فلاں محلے میں البتہ ایک کتا مارا گیا۔''

سہم کر ''ب'' نے پوچھا۔ ''کوئی اور خبر؟''

جواب ملا۔ ''خاص نہیں' نہر میں تین کتیوں کی لاشیں ملیں۔''

الف نے ب کی خاطر ملٹری والوں سے کہا۔ ''ملٹری کچھ انتظام نہیں کرتی۔''

جواب ملا۔ ''کیوں نہیں' سب کام اسی کی نگرانی میں ہوتا ہے۔''

◆◆◆

جوتا

ہجوم نے رخ بدلا اور سرگنگارام کے بت پر پل پڑا۔ لاٹھیاں برسائی گئیں۔ اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے۔ ایک نے منہ پر تارکول مل دیا۔ دوسرے نے بہت سے پرانے جوتے جمع کئے اور ان کا ہار بنا کر بت کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ مگر پولیس آ گئی اور گولیاں چلنا شروع ہوئیں۔

جوتوں کو ہار پہنانے والا زخمی ہو گیا۔ چنانچہ مرہم پٹی کے لیے اسے سرگنگارام ہسپتال بھیج دیا گیا۔

◆◆◆

پیش بندی

پہلی واردات ناکے کے ہوٹل کے پاس ہوئی۔فوراً ہی وہاں ایک سپاہی کا پہرہ لگا دیا گیا۔

دوسری واردات دوسرے ہی روز شام کو اسٹور کے سامنے ہوئی۔سپاہی کو پہلی جگہ سے ہٹا کر دوسری واردات کے مقام پر متعین کر دیا گیا۔

تیسرا کیس رات کے بارہ بجے لانڈری کے پاس ہوا۔

جب انسپکٹر نے سپاہی کو اس نئی جگہ پہرہ دینے کا حکم دیا تو اس نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا۔'' مجھے وہاں کھڑا کیجئے جہاں نئی واردات ہونے والی ہے۔''

◆◆◆

سوری

چھری پیٹ چاک کرتی ہوئی ناف کے نیچے تک چلی گئی۔ آزار بند کٹ گیا۔ چھری مارنے والے کے منہ سے دفعتاً کلمہ تاسف نکلا۔

''چ' چ' چ' چ۔۔۔۔۔مشٹیک ہوگیا۔''

◆◆◆

رعایت

''میری آنکھوں کے سامنے میری جوان بیٹی کو نہ مارو۔''

''چلو اسی کی مان لو۔ کپڑے اتار کر ہانک دو ایک طرف۔''

◆◆◆

صفائی پسندی

گاڑی رکی ہوئی تھی۔

تین بندوقچی ایک ڈبے کے پاس آئے۔کھڑکیوں میں سے اندر جھانک کر انہوں نے مسافروں سے پوچھا۔''کیوں جناب کوئی مرغا ہے؟''

ایک مسافر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔باقیوں نے جواب دیا۔''جی نہیں''

تھوڑی دیر کے بعد چار نیزہ بردار آئے۔کھڑکیوں میں سے اندر جھانک کر انہوں نے مسافروں سے پوچھا۔''کیوں جناب کوئی مرغا ور غا ہے؟''

اس مسافر نے جو پہلے کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا' جواب دیا۔''جی معلوم نہیں' آپ اندر آ کے سنڈاس میں دیکھ لیجئے۔''

نیزہ بردار اندر داخل ہوئے۔سنڈاس توڑا گیا۔تو اس میں سے ایک مرغا نکل آیا۔

ایک نیزہ بردار نے کہا۔''کر دو حلال''

دوسرے نے کہا۔''نہیں یہاں نہیں' ڈبہ خراب ہو جائے گا۔باہر لے چلو۔''

◆◆◆

صدقے اس کے

مجرا ختم ہوا۔ تماشائی رخصت ہو گئے۔ تو استاد جی نے کہا۔

''سب کچھ لٹا پٹا کر یہاں آئے تھے لیکن اللہ میاں نے چند دنوں ہی میں وارے نیارے کر دیئے۔''

◆◆◆

اشتراکیت

وہ اپنے گھر کا تمام ضروری سامان ایک ٹرک میں لدوا کر دوسرے شہر جا رہا تھا کہ راستے میں لوگوں نے اسے روک لیا۔ ایک نے ٹرک کے مال و اسباب پر حریصانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ''دیکھو یار کس مزے سے اتنا مال اکیلا اڑائے چلا جا رہا تھا۔''

اسباب کے مالک نے مسکرا کر کہا۔ ''جناب یہ مال میرا اپنا ہے۔''

دو تین آدمی ہنسے۔ ''ہم سب جانتے ہیں۔''

ایک آدمی چلایا۔ ''لوٹ لو یہ امیر آدمی ہے۔ ٹرک لے کر چوریاں کرتا ہے۔''

◆◆◆

الہنا

”دیکھو یار، تم نے بلیک مارکیٹ کے دام بھی لیے اور ایسا ردی پٹرول دیا کہ ایک دکان بھی نہ جلی۔“

آرام کی ضرورت

''مرا نہیں۔۔۔۔۔۔۔دیکھو ابھی جان باقی ہے۔''

''رہنے دو یار۔۔۔۔۔۔۔میں تھک گیا ہوں۔''

◆◆◆

قسمت

”کچھ نہیں دوست۔۔۔۔۔۔اتنی محنت کرنے پر صرف ایک بکس ہاتھ لگا تھا پر اس میں بھی سالا سور کا گوشت نکلا۔

◆◆◆

آنکھوں پر چربی

''ہماری قوم کے لوگ بھی کیسے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ پچاس سور اتنی مشکلوں کے بعد تلاش کر کے اس مسجد میں کاٹے ہیں' وہاں مندروں میں دھڑا دھڑ گائے کا گوشت بک رہا ہے لیکن یہاں سور کا ماس خریدنے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں۔''

◆◆◆